

109186 - میلاد اور تہوار منانا اور اس میں کھانا کھلانا

سوال

اگر کوئی شخص ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات قرآن ختم کرے اور فقراء و مساکین کو کھانا کھلائے تو کیا یہ جائز ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله:

عيد الفطر اور عيد الاضحى اور ايام تشریق (یعنی ذوالجہ کی گیارہ بارہ اور تیرہ اور چودہ تاریخ) میں لوگوں کا ایک دوسرے کی دعوت کرنا اور کھانے کے لیے جمع ہونا دین اسلام کے شعار میں شامل ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مشروع کیا ہے۔

اور رمضان المبارک میں فقراء و مساکین کو کھانا کھلا کر تعاون کرنا اسلام کی سنت میں شامل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جس کسی نے بھی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی اس جتنا ہی اجر و ثواب حاصل ہو گا "

اور پھر فقیر قراء کرام کا ہر وقت ایسی اشیاء سے تعاون کرنا جو ان کے لیے قرآن مجید میں ممد و معاون ثابت ہو صالح اور نیک عمل ہے، جو کوئی بھی اس میں ان کی معاونت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اجر میں برابر کا شریک ہے۔

لیکن شرعی تہوار کے علاوہ کوئی اور تہوار بنا لینا مثلاً ربیع الاول کی کوئی رات جس میں کھا جاتا ہے کہ یہ میلاد کی رات ہے، یا پھر رجب کی کوئی رات، یا ذوالحجہ کی آٹھارہ تاریخ کی رات، یا رجب کا پہلا جمعہ یا آٹھ شوال جسے جاہل قسم کے لوگ نیکوں کی عید کا نام دیتے ہیں، یہ سب بدعات میں شامل ہیں جسے نہ تو سلف مستحب سمجھتے تھے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم " انتہی ۔

دیکھیں: مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ (25 / 298)۔